



سوال

(887) بیوہ کی دوسری جگہ شادی کے بعد بچوں پر یتیموں کا حکم لاکو ہوگا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارا چھوٹا بھائی مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا اس کے چھوٹے بچے دو ہیں۔ ایک بچہ اور ایک بچی۔ اب اس کی بیوہ نے آگے شادی کر لی ہے۔ یعنی ہمارے چھوٹے بھائی سے۔ کیا اب بھی شہید بھائی کے بچے یتیم ہیں اور ان سے یتیموں جیسا سلوک ہونا چاہیے؟ یا اب یتیمی ختم ہو گئی ہے؟ (قاری عبدالغفار سلفی بلوچ۔ لاہور) (۱۹ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یتیم کا زمانہ ماں کے آگے شادی کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی حد بچوں کا بالغ ہونا ہے۔ بچے جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو یتیمی کا دور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الیتیم انقطاع الصبۃ عن ابیہ قبل بلوغہ المفردات، (کتاب الیاء، ص: ۵۵۰)

”بچے کا اپنی بلوغت سے قبل ہی اپنے باپ سے جدا ہوجانے کا نام یتیم ہے۔“

ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، متفرقات: صفحہ: 602

محدث فتویٰ